



جانے کی ضرورت ہے



NY State of Health کے تمام پلانز سالانہ چیک اپ اور اسکریننگز کے مدنظر مفت روک تھام کے فوائد فراہم کرتے ہیں... لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ پلانز آپ کے بیمار ہونے پر ڈاکٹر سے ہونے والی ملاقاتوں کا احاطہ کرتے ہیں چاہے آپ نے اپنی کٹوتی پوری نہیں کی ہو؟

NY State of Health
نیو یارک کا باضابطہ
بیلٹھ پلان مارکیٹ پلیس ہے۔
میں کس طرح اندراج کراؤں؟



پر آن لائن

nystateofhealth.ny.gov



پر بذریعہ فون

1-855-355-5777

TTY

1-800-662-1220



بذات خود معائنہ کار

سے اس پر ملیں

[info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor](http://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor)

1 بیماری کے سبب ملاقات کیا ہے؟

- بیماری کے سبب ملاقات آپ کے بیمار ہونے پر، جیسے فلو یا جوف انف کی سوزش ہونے پر آپ کے ڈاکٹر سے ہونے والی ملاقات ہوتی ہے۔

2 کٹوتی سے قبل بیماری کے سبب ملاقاتوں کا احاطہ کرنے والے منصوبے کس طرح کام کرتے ہیں؟

- کٹوتی وہ رقم ہوتی ہے جو آپ کے پلان کے ذریعے کسی ایسی صحت خدمات کا احاطہ کیے جانے سے قبل آپ کو اد کرنا ضروری ہوتا ہے جو دیکھ بھال کی خدمات ہیں۔
- کچھ پلانز آپ کی کٹوتی آپ کے پوری کرنے سے قبل بیماری کے سبب ملاقاتوں کے لیے ادائیگی کریں گے۔
- اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم قیمت کا پلان خرید سکتے ہیں اور آپ اور آپ کی فیملی کے ہر محیط ممبر کو آپ کی کٹوتی پوری ہونے سے قبل ڈاکٹر کے پاس تین مفت یا کم قیمت والی بیماری کے سبب ملاقاتیں ہوں گی۔
- اگر ضمنی ادائیگی لاگو ہوتی ہو تو آپ اب بھی اس کی ادائیگی کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔

NY State of Health قابل اطلاق وفاقی دیوانی حقوق کے قوانین اور ریاستی قوانین کی تعمیل کرتا ہے اور نسل، رنگ، قومی بنیاد، مسلک/مذہب، جنس، ازدواجی/کنہ جاتی حیثیت، معذوری، گرفتاری کے ریکارڈ، مجرمانہ سزا یا بی (سزا یا بیوں)، صنفی شناخت، صنفی رجحان، ثانوی جینیاتی خصوصیات، فوجی حیثیت، خانگی تشدد کے متاثر کی حیثیت اور/یا انتقام کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کرتا ہے۔



جانے کی
ضرورت ہے

3 NY State of Health کے کون سے پلان کٹوتی لازمی طور پر آپ کے پورا کرنے سے قبل بیماری کے سبب ملاقاتوں کا احاطہ کرتے ہیں؟

- 2020 میں، سبھی معیاری پروونز پلانز میں (ہیلتھ سیونگز اکاؤنٹ (Health Savings Account, HAS) کو چھوڑ کر) تین مفت بیماری کے سبب ملاقاتیں شامل ہوں گی۔
- کچھ سلور اور گولڈ پلانز میں بھی کٹوتی سے قبل بیماری کے سبب تین ملاقاتیں شامل ہوں گی۔²
- معیاری پلاٹینم پلانز میں کٹوتیاں نہیں ہیں۔

4 میں NY State of Health کا ایسا پلان کیسے تلاش کروں جو کٹوتی سے قبل بیماری کے سبب تین ملاقاتوں کا احاطہ کرتا ہے؟

تین مفت یا کم قیمت پر بیماری کے سبب ملاقاتیں پیش کرنے والے ہیلتھ پلانز ہر کاؤنٹی میں دستیاب ہیں۔ مزید جاننے کے لیے:

- NY State of Health کے پلانز کی خریداری اور موازنے کا ٹول nystateofhealth.ny.gov پر ملاحظہ کریں
- پلانز کے نام میں "ST3PCP" والے پلانز تلاش کریں۔
- NY State of Health کے مفت مصدقہ اندراج میں معاون سے ملیں۔ اپنی کمیونٹی میں کسی کو تلاش کرنے کے لیے:
- info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor ملاحظہ کریں
- ہمیں 1-855-355-5777، 1-800-662-1220 TTY پر کال کریں۔

1. بیماری کے سبب ملاقاتوں میں کنبہ جاتی ادویہ، داخلی ادویہ، ادویہ اطفال، زچگی، امراض نسوان یا آؤٹ پشٹ ذہنی صحت یا رویہ جاتی صحت یا نشے کے استعمال سے متعلق خدمات میں تخصیص رکھنے والے ابتدائی نگہداشت فراہم کنندگان شامل ہیں۔
2. کچھ خدمات، جیسے لیباریٹری کی جانچیں بیماری کے سبب ملاقات کے دوران انجام دی جا سکتی ہیں اور ان میں لاگت میں حصہ داری ہو سکتی ہیں یا وہ آپ کی کٹوتی کے تحت آ سکتی ہیں۔